

6	כִּי- کیونکہ	הַנְּבִיא دیکھو-میں	מִקְיָם کھڑا-کر-رہا-ہوں	אֶת- کو	הַכְּשָׁדִים کسڈیوں	הַגּוֹי قوم	הַמִּזְרַח تلخ	וְהַנְּמִתָּהּ اور-جلدباز	הַהוֹלֵךְ چلنے-والی	לְמִדְבָּרֵי- وسعتوں-میں
		H2009	H0853	H3778	H4751		H1980	H4800		

אֶרֶץ زمین-کی	לְרִשֵׁת قبضہ-کرنے-کے-لیے	מִשְׁכְּנֹת مسکنوں-پر	לֹא- نہیں	לֹא: اُس-کے
H0776	H3423	H4908	H3808	

گی۔ کرے قبضہ پر ممالک دوسرے کے کر عبور کو دنیا پوری قوم زو تلخ اور ظالم یہ گا۔ کروں کھڑا کو بابلوں میں

7	אֵים خوفناک	וְנֹרָא اور-بیبت-ناک	הוּא وہ	מִזְנוֹ اُس-سے	מִשְׁפָּטוֹ اُس-کا-انصاف	וּשְׂאוֹ اور-اُس-کی-عظمت	יִצָּא: نکلتی-ہے
	H0366	H3372	H1931	H4941	H7613	H3318	

گی۔ پڑے ماننی عظمت اور قوانین کے اسی طرف ہر گے، کھائیں دہشت سخت سے اُس لوگ

8	וְקָלוֹ اور-تیز-تر	מִנְמָרִים چیتوں-سے	סוֹטָיו اُس-کے-گھوڑے	וְחֵדוֹ اور-تیز-تر	מִזְאָבֵי بھیڑیوں-سے	עָרְבֵי شام-کے	וּפְשֵׁוֹ اور-پھیل-جاتے-ہیں	פָּרְשָׁיו اُس-کے-سوار
	H7043	H5246		H2061	H6153			

וּפְרָשָׁיו اور-اُس-کے-سوار	מִרְחֹק دُور-سے	יָבֹאוּ آتے-ہیں	יָעֲפוּ اُڑتے-ہیں	כְּנֶשֶׁר عقاب-کی-طرح	חָשׂוֹ جلدی-کرنے-والا	לְאֶבְזָלוֹ: کھانے-کے-لیے
H7350	H0935	H5404	H0398			

ہیں۔ آتے سے دُور دُور کر دوڑ سرپٹ وہ ہوتے۔ نہیں پھرتیلے جیسے اُن بھی بھیڑیے والے کرنے شکار وقت کے شام اور ہیں، تیز سے چیتوں گھوڑے کے اُن ہیں۔ کرتے حملہ پر شکار اپنے وہ طرح اسی بے مارتا جھپٹا پر لاش عقاب طرح جس

9	כָּלָה سارے	לְחַמְסָם ظلم-کے-لیے	יָבוֹאוּ آنا-ہے	מִנְמַת زُح	פְּנִיָּהֶם اُن-کے-چہروں-کا	קָרִימָה اُگے	וַיֵּאָסֶר اور-جمع-کرتا-ہے	כְּחֹל ریت-کی-طرح	שָׁבִי: قیدی
	H3605	H2555	H0935	H4041	H6440	H6921	H0622	H2344	

ہیں۔ ہوتے جمع میں ہاتھ کے اُن قیدی بے شمار جیسے ریت ہیں۔ جاتے بڑھتے اُگے وہاں جائیں بھی جہاں کریں۔ تشدد و ظلم کہ ہیں آتے سے مقصد اسی سب

10	וְהוּא اور-وہ	בְּמַלְכִים بادشاہوں-کا	יִתְקַלֵּם مذاق-اُڑاتا-ہے	וְרוֹזְנִים اور-حاکم	מִשְׁחָק ہنسی	לֹא اُس-کے-لیے	הוּא وہ	לְכָל- ہر	מִבְּצָר قلعے-پر	יִשְׁחָק ہنستا-ہے
	H1931	H4428	H7046	H7336	H4890	H1931	H3605	H4013	H7832	

וַיִּצְבֹּר اور-ڈھیر-لگاتا-ہے	עָפָר مٹی	וַיִּלְכְּדָהּ: اور-فتح-کر-لیتا-ہے-اُسے
H6651	H6083	H3920

کی اُن وہ ہی جلد ہیں۔ اُٹھتے ہنس وہ کر دیکھ کو قلعے ہر ہیں۔ جاتے بن نشانہ کا تمسخر کے اُن بزرگ کے دوسروں اور ہیں، اُڑاتے مذاق کا بادشاہوں دیگر وہ ہیں۔ کرتے قبضہ پر اُن کر لگا ڈھیر کے مٹی ساتھ کے دیواروں

11	אָז پھر	חָלָף بدل-جاتی-ہے	רוּחַ روح	וַיַּעֲבֹר اور-گزر-جاتا-ہے	וְאֶשָּׁם اور-مجرم-ہوتا-ہے	זוּ یہ	כַּחַז اُس-کی-طاقت	לְאֵלֵהוּ: اُس-کے-معبود-کی
	H2498	H7307	H0816	H2098	H4030	H0430		

ہے۔ خدا کا اُن طاقت اپنی کی اُن کیونکہ گے، ٹھہریں قصوروار وہ لیکن ہیں۔ جاتے بڑھ اُگے کر گزر سے وہاں طرح کی ہوا تیز وہ پھر

12	הָלֹא کیا-نہیں	אֲנִי تُو	מִקְדָּם قدیم-سے	יְהוּוָה یہوواہ	אֱלֹהֵי میرے-خدا	קָדְשִׁי میرے-قدوس	לֹא نہیں	נִמּוֹת ہم-میں-گے	יְהוּוָה یہوواہ	לְמִשְׁפָּט عدالت-کے-لیے
	H3808	H3068	H0430	H6918	H3808	H4191	H3068	H4941		

שְׂמֹתוֹ ٹو-نے-مقرر-کیا-اُسے	וְצֹר اور-اے-چٹان	לְהוֹכִיחַ تنبیہ-کے-لیے	יְסֻדָּתוֹ: ٹو-نے-قائم-کیا-اُسے
H6697	H3198	H3245	

تیری چٹان، اے ہے۔ کیا مقرر لئے کے دینے سزا اُنہیں نے تُو رب، اے گے۔ مریں نہیں ہم ہے؟ نہیں قدوس میرا خدا، میرا ہی سے زمانے قدیم تُو کیا رب، اے کریں۔ تربیت ہماری وہ کہ بے مرضی

13	מְהוֹר	עֵינַיִם	מִרְאֹת	רָע	וְהִבִּיט	אֶל-	עָמַל	לֹא	תוֹכַל	לָמְדָה	תִּבְיַט
	پاک	آنکھوں	دیکھنے سے	بدی	اور-دیکھنا	کی-طرف	مشقت	نہیں	ٹو-کر-سکتا	کیوں	ٹو-دیکھتا-ہے
	H2890	H7200	H5027	H0413	H5999	H3808	H3201	H4100	H5027		

בּוֹדֵיִם תּוֹרִישׁ בְּבִלְע רָשָׁע צָרִיק מְזַמְּנוֹ:
 ہے-وفاؤں-کو ٹو-خاموش-رہتا-ہے جب-نگلنا-ہے شریر صادق-کو اپنے-سے
[H0898](#) [H1104](#) [H7563](#) [H6662](#)

کی ہے وفاؤں ان ٹو پھر تو سکتا۔ ڈال نہیں نظر پر تشدد و ظلم سے خاموشی ٹو سکتا، کر نہیں برداشت کام بُرا ٹو لئے اس میں، پاک بالکل آنکھیں تیری ہے؟ رہتا کیوں خاموشی ٹو تو ہے باز راست زیادہ کہیں سے اُس جو لیتا کر ہڑپ اُسے بے دین جب ہے؟ کرتا برداشت طرح کس کو حرکتوں

14	וְתַעֲשֶׂה	אָדָם	סַמְדָר-כִּי-מִגְּהִלוֹם-כִּי-طَرَح	כְּדָרְיָ	הַיָּם	כְּרָמֶשׂ	לֹא-	מִזְשָׁל	בּוֹ:
	اور-ٹو-بناتا-ہے	آدمی-کو	سمندر-کی-مچھلیوں-کی-طرح	سمندر-کی	رینگنے-والوں-کی-طرح	نہیں	حاکم	اُن-پر	
	H0120	H1709	H3220	H7431	H3808	H4910			

نہیں۔ مالک کوئی کا جن جائے، پکڑا طرح کی جانوروں سمندری اُن اُسے کہ جائے، کیا سلوک سا کا مچھلیوں سے انسان کہ بے دیا ہونے نے ٹو

15	כָּלֵהוּ	בְּחֻכָּה	הֶעֱלָה	יִזְרְהוּ	בְּחַרְמוֹ	וַיֹּאסְפוּהוּ	בְּמִכְמַרְתּוֹ	עַל-
	سب-کو	کانٹے-سے	اُٹھاتا-ہے	کھینچتا-ہے-اُسے	اپنے-جال-سے	اور-جمع-کرتا-ہے-اُسے	اپنے-ڈالنے-والے-جال-میں	اوپر
	H3605	H2443	H5927	H1641	H0622			

כֵּן יִשְׁמַח וַיִּנְיֵל:
 اِس-لیے خوش-ہوتا-ہے اور-نشاط-کرتا-ہے
[H8055](#) [H1523](#)

شادمانہ کر بو خوش وہ تو ہے جاتا بو جمع ڈھیر بڑا کا اُن جب ہے۔ لیتا پکڑ اُنہیں کر ڈال جال اپنا ہے، لیتا نکال سے پانی ذریعے کے کانٹے کو سب اُن دشمن ہے۔ بجاتا

16	עַל-	כֵּן	יִזְבַּח	לְחַרְמוֹ	וַיִּקְטֹר	לְמִכְמַרְתּוֹ	כִּי	בְּהִלְמוֹ
	اوپر	اِس-لیے	قربانی-چڑھاتا-ہے	اپنے-جال-کو	اور-دھوپ-جلاتا-ہے	اپنے-ڈالنے-والے-جال-کو	کیونکہ	اِن-سے
			H2076				H1992	

שָׂמַן חֶלְקוֹ וּמֵאֲכָלוֹ בְּרֵאָה:
 چکنا اُس-کا-حصہ اور-اُس-کا-کھانا موٹا
[H8082](#) [H3978](#) [H1277](#)

ہے۔ سکتا گزار زندگی کی عشرت و عیش وہ سے وسیلے کے اُسی کیونکہ ہے۔ کرتا قربان جانور اُسے کر جلا بخور سامنے کے جال اپنے وہ تب

17	הֵעֵל	כֵּן	יָרִיק	חַרְמוֹ	וְתַמִּיד	לְהַרְג	גּוֹיִם	לֹא	יַחְמוּל:	ס
	کیا-اوپر	اِس-لیے	خالی-کرے	اپنا-جال	اور-بمبشہ	قتل-کرنے-کے-لیے	قوموں-کو	نہیں	رحم-کرے-گا	[فاصلہ]
			H7324	H8548	H2026	H3808	H2550			

رہے؟ اُتارتا گھاٹ کے موت سے بے رحمی کو قوموں اور ڈالتا جال اپنا مسلسل وہ کیا